

قارئین کے خطوط بنام ادارہ

ترتیب: قاری ثناء اللہ خان

جناب مدیر مسئول صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! اما بعد،،،،،

(۱) علوم الہیہ میں افتاء بہت ہی مقدس ہے۔ افتاء کا پوری امت کے ساتھ تعلق ہے۔ اور درس تدریس کے ساتھ امت کے ایک محدود طبقہ کا تعلق ہے۔

(۲) حقیقت میں درس و تدریس کا شعبہ خادم ہے افتاء کا۔ اور درس و تدریس کے شعبہ کا وجود ہی افتاء کے لئے۔

(۳) درس و تدریس میں تحقیق و تدقیق و عمق کی ضرورت بجا ہے۔ لیکن امت میں تجارت و زراعت اور ملازمت و ضاعت میں ترقی و عروج نے جدید تحقیقات کی ضرورت کو حد لزوم و وجوب پر پہنچا دیا ہے۔

(۴) بقول حضرت شیخ الہند صاحب اور بقول شاہ انور شاہ کشمیری درس و تدریس آسان ہے، اور افتاء مشکل ہے۔

(۵) شق نمبر ۳۴ کے لئے امت میں رجال جو اہل افتاء ہوں کم ہیں۔ اور درس و تدریس کے لئے کافی ہیں۔ اگرچہ قحط الرجال دونوں شعبوں میں تسلیم ہے۔

(۶) نیز افتاء کے لئے کچھ اہل افتاء ہیں۔ اُن میں صحت، استعداد و حوصلہ فقدان کے برابر ہے۔ حضرت مولانا ظلیل احمد صاحب سہارن پوری نے فرمایا تھا کہ صاحب بدائع الصنائع کو اللہ پاک نے فقہ ہی کے لئے پیدا کیا تھا۔ لیکن نہ تو بدائع الصنائع کو دیکھنے والے رہ گئے اور نہ سمجھنے والے رہ گئے۔ آج امت کے مشائخ الحدیث معارف السنن کی جگہ درس ترمذی سے بخاری و ترمذی پڑھاتے ہیں۔

(۷) افتاء کے لئے نہ تو رجال رہے۔ نہ ہمت و حوصلہ رہا۔ اور نہ ہی اس کے لئے ایک بورڈ کی تشکیل اور ایک مقام مہیا کرنے والے رہے۔ اور نہ اس سے متعلق سہولیات پر سوچنے والے رہے۔

(۸) آج یہ سوچ بھی معدوم ہو گئی۔ کہ آجکل افتاء کی منصب کے لئے بڑے مفتی صاحبان سے تجربہ حاصل کرنا ضروری سمجھا جائے۔

(۹) احقر چاہتا ہے کہ بنوں ڈویژن کی سطح پر یا بنوں ضلع کی سطح پر بنوں ہی میں ایک مرکزی دارالافتاء کا وجود ظہور میں آجائے۔ جس میں تجربہ کار و جدید مفتی صاحبان جو صاحب تحریر بھی ہوں۔ اور علوم افتاء سے خاص تعلق بھی رکھتے ہوں۔ ان کی دس سے پندرہ تک پر مشتمل ایک فقہی بورڈ وجود میں آجائے۔ جو دس سے پندرہ دن کے بعد آپس میں بیٹھ سکے۔ اور متعلقہ درپیش مسئلہ پر باہمی بحث، تشخیص، تائید و تردید کر سکے۔ اور جب اشکال زیادہ ہو تو اپنے اکابرین کی طرف رجوع کا جذبہ بھی رکھتے ہوں۔ والسلام

از مفتی معین الدین رئیس دارالافتاء مدینۃ العلوم ورنہ کرک۔